

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عِلْمًا نَافِعًا وَاسِعًا عَمِيقًا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا

مُبَارَكًا مِّنْ عِنْدِكَ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَيَاةَ سَعَادَةٍ وَمَوْتَ شَهَادَةٍ

إِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الّٰرْضِ  
وَ اللّٰهُ بِصِیْرٍ بِمَاتَعْمَلُونَ



إِنَّ  
اللَّهُ  
يَعْلَمُ  
بِشِكِّ  
اللَّهِ  
جانتے ہیں

غَيْبٌ ← پوشیدہ

السَّمَوَاتِ ← آسمان

غَيْبِ السَّمَوَاتِ ← آسمانوں کی پوشیدہ باتیں

اسم نکرہ      اسم معرفہ

ترجمہ کرتے ہوئے **کا، کی، کے** کا اضافہ ہوتا ہے۔

وَالْأَرْضُ ← زمين

وَ ← اور

اللَّهُ ← اللہ

بَصِيرٌ ← بَصِيرٌ ← فَعِيلٌ ← سمع و بصر

ازل سے ابد کے دیکھنے والے

بِمَا

← ب ← + ← م ← اس کے متعلق جو

کے متعلق موصولہ (جو)  
علامت جمع

← ت ← + ← عَمَلُ ← + ← وُن ←

تم سب کام کرتے ہو  
یا کرو گے

علامت مخاطب مضارع کام کیا

بِمَا تَعْمَلُونَ ← اس کے متعلق جو تم کام کرتے ہو

إِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ  
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

یقیناً اللہ تو زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں اور

جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔